

فیملی کے لیئے شناختی کارڈز

2



تفصیل

بچہ انٹرویو لے گا اور خاندان کے ہر فرد کے لئے شناختی کارڈ بنائے گا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو اچھی طرح جان سکے اور تحریری صلاحیتوں کا استعمال کرے۔

اہم سوال

کیا آپ اپنے گھر والوں کے لئے ایسے شناختی کارڈز بنا سکتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ایک جیسے اور مختلف پہلوؤں کی معلومات فراہم کر سکے؟

مضامین

اردو / انگریزی ، حیاتیات

کل وقت درکار

3 دن میں 3 گھنٹے

خود رہنمائی / زیر نگرانی سرگرمی

اس پروجیکٹ میں بچے کے والدین کی نگرانی کی زیادہ ضرورت ہوگی۔

وسائل درکار

پنسل ، کاغذ / نوٹ بک ، رنگین قلم ، اسٹیکرز (اختیاری) ، گوند (اختیاری)



پہلا دن



پروجیکٹ کا تعارف

”آج ہم ایک اور بہت ہی دلچسپ پروجیکٹ شروع کریں گے اس پروجیکٹ میں مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے سب گھر والوں کے بارے میں بہت نئی چیزیں جانیں گے۔ اس پروجیکٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم سب ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی کس طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یا مختلف ہیں۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے لئے ہم سب گھر والوں کے بہت ہی مزیدار انٹرویوز کریں گے۔“



بچوں کے لئے شناختی کارڈ ایک نئی چیز ہو سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی سمجھ کو جاننے کیلئے مندرجہ ذیل سوال پوچھے جائیں



1 (1) شناختی کارڈ کیا ہوتا ہے؟

2 (2) کیا آپ نے کبھی شناختی کارڈ دیکھا ہے؟

3 (3) اگر ہاں، تو کیا آپ کو شناختی کارڈ کے کوئی سوال یاد ہے؟

اگر آپ کے بچے کو شناختی کارڈ کے بارے میں معلوم نہیں تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں۔
آپ اپنا شناختی کارڈ بھی بچے کو دیکھا کر، ان کو سمجھا سکتے ہیں۔

”شناختی کارڈ میں ایسی معلومات ہوتی ہیں جس سے کسی شخص کی صبح سے پہچان ہو سکے۔ جیسے کہ نام، عمر، جنس وغیرہ۔ اس کارڈ پر آپ کی تصویر اور گھر کا پتا بھی لکھا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے دوران ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے گھر والوں میں کیا خصوصیات ہیں جو ملتی جلتی ہیں یا بالکل مختلف ہیں۔ اس کے ذریعہ سے ہم ہر ایک فرد کے لئے منفرد شناختی کارڈ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کے ہر فرد کا اپنا انوکھا انداز اور سوچنے کا طریقہ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر کسی کی منفرد اور الگ عادات کو صرف سمجھیں نہیں بلکہ اُن کا احترام بھی کریں۔“

بچوں سے مندرجہ ذیل سوال پوچھیں

- 1 آپ میں اور آپ کے گھر والوں میں کیا کیا خصوصیات ملتی جلتی ہے؟
[میری آنکھوں کا رنگ، رنگت وغیرہ جیسی چند مثالیں ہو سکتی ہیں]۔
- 2 آپ کی کون سی خصوصیات اپنے گھر والوں سے منفرد ہے؟ [عمر، پسندیدہ رنگ، پسندیدہ کھیل وغیرہ]۔
- 3 کیا آپ ایسے دس سوال سوچ سکتے ہیں جس سے ہم اپنے گھر والوں کی عادات اور رائے جان سکیں؟ ان دس سوالات میں واضح خصوصیات [قد، بالوں کا رنگ، جنس] اور ذاتی ترجیحات [پسندیدہ کھانا رنگ، مضمون، کھیل] ہو سکتے ہیں



ہم ایک جیسے کیوں ہیں؟

بچے سے پوچھئے کہ ”جینز“ کیا ہوتی ہیں؟

”جینز وراثت کا ایک یونٹ ہے جو والدین سے اولاد میں منتقل ہوتا ہے اور اس کی بنا پر اولاد کی کچھ خصوصیات کا تعین ہوتا ہے۔ کچھ خصوصیات بہت واضح ہوتی ہیں جو جینز کے ذریعے والدین سے اولاد تک منتقل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک ہی گھر کے افراد کی آنکھوں اور بالوں کا رنگ، قد، رنگت کافی دفعہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ کچھ خصوصیات تھوڑی کم واضح بھی ہوتی ہیں جیسے بائیں ہاتھ سے لکھائی کرنا، زبان کو رول کرنا، ڈرائنگ میں بہت اچھا ہونا وغیرہ۔“

اب بچے کو تھوڑا غور و فکر کرنے کا موقع دیں اور نیچے دیے گئے سوالات پوچھیں

- 1 آپ میں اور آپ کے گھر والوں میں کون سی چیزیں بہت واضح طور پر ملتی جلتی ہیں؟
- 2 آپ میں اور آپ کے گھر والوں میں کون سی چیزیں ملتی جلتی ہیں جو زیادہ واضح نہیں؟



آئیے، مل کر شناختی کارڈ بنائیں

ہم پہلے ہی سے دس خصوصیات جان چکے ہیں۔ یہ معلومات اب اپنے گھر والوں کے منفرد شناختی کارڈ بنانے میں استعمال کریں گے۔ نیچے دیئے گئے خاکہ کی مدد سے گھر والوں کے لیے شناختی کارڈ تیار کریں۔

بچہ گھر کے فرد کی کاغذ پر چہرہ بنانے کی کوشش کرے گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچے کے لیے مشکل ہوگا تو گھر والوں کی تصویر گوند کی ذریعے چپکائی جاسکتی ہے یا پھر صرف نام بھی لکھا جاسکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ٹھیک سے لکھائی نہیں کر سکتا تو آپ ان کی مدد کے لیے نقطہ لگا سکتے ہیں، جن کو بچہ ٹریس کر کے اپنی لکھائی کی مشق کر سکتا ہے۔

خاندانی شناختی کارڈ

خاندان کے فرد کی
تصویر / ڈرائنگ

نام
عمر
قد
بالوں کا رنگ
آنکھوں کا رنگ
دائیں ہاتھ / بائیں ہاتھ
پسندیدہ کھانا
پسندیدہ کھیل
پسندیدہ قلم
پسندیدہ جانور
پسندیدہ رنگ
پسندیدہ موضوع

دوسرا دن



سابقہ روز کی معلومات کی دہرائی

بچے کو پروجیکٹ کے بعد دوسرے دن پر خوش آمدید کریں اور ان کی شرکت کی حوصلہ افزائی کریں۔ پچھلے دن میں سکھائے گئے سبق کو دوبارہ دہرانے کے لئے مندرجہ ذیل سوال پوچھئے:

1 کل ہم نے کیا کیا سیکھا؟

2 کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ میں اور آپ کے گھر والوں میں کیا خصوصیات ملتی جلتی ہیں؟

3 کیا آپ کو یاد ہے ہم نے شناختی کارڈ کیلئے کون سے سوالات پوچھے تھے؟

4 کیا آپ آج کے دن اور اس کی مشقوں کے لیے تیار ہیں؟



انٹرویو کی تیاری

”یہ ایک بہت ہی مزیدار مشق ہے، جس میں ہم اپنے گھر والوں کے منفرد شناختی کارڈ بنائیں گے۔ اس مرحلہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں ایسی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو شاید ہمیں پہلے جاننے کا موقع نہیں ملا۔ ہم نے کل دس سوال پر غور و فکر کیا تھا اور ہر گھر کے فرد کے لیے ایک الگ شناختی کارڈ کا خاکہ بھی بنا لیا تھا۔ اب اگلے مرحلے کی باری آگئی ہے جس میں آپ گھر والوں کا انٹرویو کرے گیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی جس سے ہم نہ صرف اپنے گھر والوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں، بلکہ انٹرویو میں ان کی دلچسپی بھی قائم رکھ سکیں۔ ہمیں سوالات پوچھنے کا ایسا طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ ہمارے گھر والے ہم سے کھل کر بات چیت کر سکیں۔“



بچے کو یہ سمجھائیں کہ ان کا ہر سوال ان میں سے کسی ایک لفظ سے شروع ہونا چاہیے۔

- کیا
- کب
- کیسے / کتنے
- کیوں
- کون

بچے کے ساتھ مل کر شناختی کارڈ کے ہر زمرے کے لئے سوالات تیار کریں۔ آپ کی شروع میں تھوڑی سی مدد سے بچے کو سوالات تیار کرنے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ آپ کی آسانی کے لیے کچھ مثالیں نیچے فراہم کی گئی ہیں۔

1 آپ کی پسندیدہ فلم کونسی ہے؟

2 آپ پاکستان کے کتنے شہروں میں سفر کر چکے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟

3 آپ کا پسندیدہ کھیل کونسا ہے؟

اپنے گھر والوں کو بہتر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ بچے ایک سوال سے مزید سوالات نکالیں جو کہ کیوں پر مبنی ہوں۔ آپ کے کچھ سوالات شناختی کارڈ بنانے کے شاید کام نہ آئیں گے۔ لیکن ان کی وجہ سے گھر والے آپس میں ایک دوسرے کو مزید گہرے انداز سے جان سکیں گے۔ کچھ مزید سوالوں کی مثالیں نیچے فراہم کی گئی ہیں۔

1 بریانی ایکا پسندیدہ کھانا کیوں ہیں؟

2 آپ کو کرکٹ کیوں پسند ہے؟

3 سوات آپ کا پسندیدہ شہر کیوں ہے؟



انٹرویو کا وقت

اب بچے گھر کے ہر فرد کا الگ الگ انٹرویو کریں گے اور ان کے جوابات اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں گے۔ اگر بچے میں اب تک لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو، والدین ان کے لیے نلفے لگا سکتے ہیں جن کو بچہ ٹریس کر کے اپنی لکھائی کی مشق کر سکتا ہے۔

بچوں کو اس سے آگاہ کریں کہ شناختی کارڈ کے معیار کو جانچنے کے لئے کچھ واضح طریقے ہیں۔ جیسے کہ یہ ضروری ہے بچہ انٹرویو لیتے ہوئے مندرجہ ذیل چیزوں کا خیال رکھے

1 گھر کے سارے افراد کا انٹرویو کرنا اور دلچسپ سوال پوچھنا۔

2 گھر کے ہر فرد کا جواب ان کے مخصوص شناختی کارڈ کے خاکے پر صفائی سے لکھنا۔

3 شناختی کارڈ تیار کرنے میں بھرپور محنت کرنا اور منفرد انداز اپنانا۔

تیسرا دن



سابقہ روز کی معلومات کی دھرائی

کل کا دن ہمارے پروجیکٹ کا سب سے دلچسپ تھا، ہے نا؟ ہمیں کل ہر گھر کے فرد کا انٹرویو کر کے کتنا مزہ آیا تھا اور اسی انٹرویو کی وجہ سے شاید ہم اپنے گھر والوں کو اور اچھی طرح سے جان گئے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا اور مستقبل میں اور بھی بڑے بڑے انٹرویوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آج کی مشق کریں، آپ سے کل کے بارے میں چند سوال پوچھیں گے:

1 کیا آپ کو کل کی مشق میں مزا آیا؟

2 کیا آپ نے گھر والوں کے بارے میں کوئی نئی چیز سیکھی؟

3 کیا کسی سوال کے جواب نے آپ کو حیران کیا؟

4 کیا کل کے انٹرویو کے بعد آپ کا گھر والوں سے تعلق پہلے کے مقابلے میں زیادہ گہرا ہوا؟

5 کیا آپ کے گھر والوں کی خصوصیت ملتی جلتی ہے یا سب ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں؟



نتائج

یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کی محنت کو وقتن فوقتن سراہتے رہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ وہ مستقل اور دل لگا کرنے نئے چیزیں سیکھیں۔

”آپ نے پچھلے دو دنوں میں بہت محنت کی ہے اور ہم آپ کا عزم دیکھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنا کام مکمل کرنے کی بہترین کوشش کی ہے۔ شاباش! اب وقت آگیا ہے کہ ہم سب ساتھ بیٹھیں اور آپ کے تحقیق کا نتیجہ دیکھیں۔ محنت کا نتیجہ ہمیشہ بہت شاندار ہوتا ہے۔“

بچے کو مندرجہ ذیل ہدایت فراہم کریں:

① سب سے پہلے تیار کردہ شناختی کارڈز کی کل تعداد بتائیں۔

② آپ سب گھر والوں کا انٹرویو کے لیے وقت دینے پر شکریہ ادا کریں۔

③ اب ہر شناختی کارڈ کی معلومات کو الگ الگ پیش کریں۔

اگر بچے میں پڑھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے تو والدین اس مرحلے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر زمرہ کو ایک جملے میں تبدیل کریں اور جملہ کا پہلا حصہ خود بولے اور بچے کو دوسرا مکمل کرنے دے۔ جیسے کہ

- والدین - یہ میرا
- بچہ - بھائی ہے
- والدین - اس کا نام
- بچہ - ہمایوں ہے
- والدین - اس کا پسندیدہ رنگ
- بچہ - لال ہے

اب سب گھر والوں کے ساتھ ایک مزے دار اور دلچسپ کھیل بھی کھیل سکتے ہیں۔ جس میں بچہ یا والدین شناختی کارڈ کے جوابات اونچی آواز میں سب کو بتائیں گے اور گھر والے کو بوجھنے کو کہیں گیں۔ گھر والے بتائیں گے کہ وہ کارڈ کس کا ہے۔



تخلیقی ہونے کا وقت

جب آپ کا بچہ سارے شناختی کارڈ بیان کر لے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ مستقبل میں اس سے بھی خوبصورت اور منفرد کارڈز بنائیں۔ اب آپ ان کارڈز کو گھر کے افراد کو بھی دے سکتے ہیں۔ یا پھر ایک بڑے سے چاٹ پیپر پر سب کارڈز کو چپکا دی اور گھر کی کسی دیوار پر لٹکا کر اپنے بچے کی محنت کو سراہیں۔



تعداد میں توسیع

ہم نے کتنا کچھ سیکھ لیا، اپنے گھر والوں کے بارے میں اب ہمیں کافی اچھے سے معلوم ہے کہ ہم سب میں کون سی خصوصیات ملتی جلتی ہیں اور کونسی منفرد ہیں۔ جس سے ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ ہماری عادتیں اور خصوصیات ملتی جلتی ہے اور کونسی منفرد ہیں۔ اب ہم ایک ٹیبل بنائیں گے جس سے یہ اندازہ ہو گا کہ سب کتنے ملتے جلتے ہیں۔

والدین اپنے بچے کو مندرجہ ذیل ٹیبل مکمل کرنے میں مدد کریں گے۔ اس ٹیبل میں وہ سوال درج ہو گے جو شناختی کارڈ پر لکھیں گے۔

آئٹم	گھر والے جن میں یہ خصوصیت موجود ہے	عدد	کُل
جیسے ، سیاہ بال	امی، ابو، باجی	III	۳
جیسے پسندیدہ رنگ زرد ہے	باجی، بھائی	II	۲

شباباش؛ ہم ایک اور پروجیکٹ مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہرے؛

سٹوڈنٹ نتائج

ہر فرد کے مکمل اور منفرد شناختی کارڈ